

# قیامت سے پہلے آنے والے بارہ قریشی خلفاء کے حوالے سے وضاحت

مجیب: ابو صدیق محمد ابو بکر عطاری

فتویٰ نمبر: WAT-1398

تاریخ اجراء: 22 رجب المرجب 1444ھ / 14 فروری 2023ء

## دارالافتاء اہلسنت

(دعوت اسلامی)

### سوال

بارہ خلفاء جو قریش سے ہوں گے اور قیامت تک بارہ پورے ہوں گے، ان کے نام وغیرہ کے متعلق تفصیل سے بتادیں

؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

ان 12 میں سے 9 کی تو تعیین ہے، بقیہ 3 کی تعیین پر کوئی یقین نہیں۔ ان کی تعیین اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں ہے۔

ان میں سے 9 کی تفصیل یہ ہے کہ:

ان میں سے 8 تو گزر چکے اور وہ یہ ہیں: "حضرات صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، حسن مجتبیٰ، امیر

معاویہ، عبد اللہ بن زبیر، عمر بن عبد العزیز۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔"

اور ایک باقی ہیں، اور وہ ہیں، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

امام اہل سنت، مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے اسی بارے میں سوال ہوا تو آپ علیہ الرحمہ

نے جواب فرمایا: "اس سے مراد وہ خلفاء ہیں کہ والیان اُمت ہوں اور عدل و شریعت کے مطابق حکم کریں، ان کا متصل

مسلسل ہونا ضرور نہیں۔ نہ حدیث میں کوئی لفظ اس پر دال ہے، ان میں سے خلفائے اربعہ و امام حسن مجتبیٰ و امیر معاویہ و

حضرت عبد اللہ بن زبیر و حضرت عمر بن عبد العزیز معلوم ہیں اور آخر زمانہ میں حضرت سیدنا امام مہدی ہوں گے۔ رضی

اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ نوہوئے باقی تین کی تعیین پر کوئی یقین نہیں۔" (فتاویٰ رضویہ، ج 27، ص 51، رضا فاؤنڈیشن، لاہور

(

مزید ایک مقام پر فرماتے ہیں: ”ان میں سے آٹھ گزر گئے صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، حسن مجتبیٰ، امیر معاویہ، عبداللہ بن زبیر، عمر بن عبدالعزیز، اور ایک یقیناً آنے والے ہیں، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین باقی تین کی تعیین اللہ ورسول کے علم میں ہے۔“ (فتاویٰ رضویہ، ج 29، ص 219، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ



**Darul-Ifta Ahlesunnat (Dawat-e-Islami)**



[www.daruliftaahlesunnat.net](http://www.daruliftaahlesunnat.net)



[daruliftaahlesunnat](https://www.facebook.com/daruliftaahlesunnat)



[DaruliftaAhlesunnat](https://www.youtube.com/DaruliftaAhlesunnat)



[Dar-ul-ifta AhleSunnat](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daruliftaahlesunnat)



[feedback@daruliftaahlesunnat.net](mailto:feedback@daruliftaahlesunnat.net)